

کون سی ماں کے پیر کے نیچے جنت ہے

By Irshad Mahmood – Director, Siraat-al-Mustaqeem Dawah Centre

ماں تو ماں ہوتی ہے مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کون سی ماں کے پیر کے نیچے جنت ہے؟ آج تو امت ابراہیم کے لیے یہ دنیا ہی جہنم بنی ہوئی ہے جبکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ سچے مومن کے لیے دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں بھلائی ہے۔ اب تو لگتا ہے ہم سچے مومن نہیں رہے اسی لیے اللہ کا عذاب پہ در پہ چلا آ رہا ہے۔

حضرت لوطؑ کی بیوی بھی کسی کی ماں تھی اور حضرت نوحؑ کی بیوی بھی مگر ان پر اللہ کا عذاب آیا حالانکہ دونوں کے شوہر کوئی عام آدمی نہیں بلکہ نبی تھے۔

اللہ نے قرآن میں ہر وقت تیار رہنے کا حکم دیا ہے۔ آج سائنس کا دور ہے اور مہنگائی کے اس دور میں کون سی ماں اپنے بچے کو ہر طرح سے تمام حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے مکمل طور پر کیسے تیار کرے۔

آئیے ہم سب ملکر واحد ہدایت کی کتاب قرآن سے ہدایت لیں۔ قرآن سمجھ کر پڑھیں اور دوسروں تک اسکا پیار بھرا پیغام پہنچائیں۔ قرآن تو ہمیں تمام دکھی انسانیت کو بچانے کا درس دیتا ہے۔ آئیے دکھی انسانیت کی مدد کے لیے سب ملکر کام کریں۔

ماں تو ماں ہوتی ہے خواہ وہ کسی بھی مذہب یا نسل یا فرقہ سے تعلق رکھتی ہو۔ ماں کی تکلیف تو سامنے نظر آتی ہے مگر باپ کی انتھک محنت و مشقت کسی کو نظر نہیں آتی حالانکہ باپ کے بغیر گھر کا اچھے سے چلانا بہت مشکل ہو تا ہے۔ اللہ نے ہمیں ماں اور باپ دونوں کا خاص خیال رکھنے کا حکم دیا ہے۔

تمام مساجد کے منتظمین سے گزارش ہے کہ محمد ﷺ کی قرآنی عربی زبان سیکھانے کا انتظام کریں۔ دنیا میں جینے کے لیے بچوں کو سائنس اور ٹکنولوجی کی بھی تعلیم دیں۔

حسن قرات نہیں بلکہ حسن تدبر کو اور قرآنی عربی زبان کو فروغ دیں اور ثوابدارین حاصل کریں، شکر یہ۔

Read Al-Quraan, the Miracle of Miracles and free from contradictions and errors

<http://global-right-path.webs.com> <http://global-right-path.blogspot.com> <http://www.global-right-path.com>

Email to global-right-path+subscribe@googlegroups.com to subscribe